

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کو مکلین کی کینیڈا کی 2021 کی بہترین کمیونٹیز کی فہرست میں #13 کا مقام حاصل ہو گیا

برامپٹن، آن (9 اپریل 2021) – سٹی آف برامپٹن کو مکلین میگزین کی جانب سے کینیڈا کی 2021 کی بہترین کمیونٹیوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو ملک میں رہنے کے لیے بہترین جگہوں کی درجہ بندی ہے۔

گزشتہ سال، اس فہرست میں برامپٹن کا مقام 199 تھا۔ اس سال، برامپٹن بڑھ کر 415 شہروں میں سے 13 مقام پر آ گیا۔ یہ درجہ بندی ہر کمیونٹی کی اعلیٰ ترین خصوصیات کو نمایاں کرتی ہے، جس میں برامپٹن کی کمیونٹی میں شمولیت، سہولیات اور انٹرنیٹ سے رابطہ کار نے سٹی کو کینیڈا میں رہنے اور فاصلے سے کام کرنے کی بہترین جگہوں کے طور پر ممتاز کیا۔

مکلین کی ملک میں رہنے کی بہترین جگہوں کی یہ نئی خصوصی درجہ بندی کووڈ-19 کی عالمی وباء اور اس بات کو مدنظر رکھتی ہے کہ زیادہ لوگ گھروں سے کام کر اور پڑھ رہے ہیں۔ انوائرنکس اینالٹس اور کینیڈین انٹرنیٹ رجسٹریشن اتھارٹی (CIRA) اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ذرائع سے عوامی طور پر دستیاب اعداد و شمار کے ذریعے، انہوں نے مختلف اقسام کے زمروں کو اس بنیاد پر ترتیب دی، جو ان کے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ اہم تھیں اور اس کے مطابق ہر میونسپلٹی کی درجہ بندی کی۔

مکلین کی درجہ بندی نے رہائشی کے قابل برداشت ہونے، آبادی کی بڑھوتری، ٹیکسز، جرم، موسم، نگہداشت صحت تک رسائی، سہولیات اور کمیونٹی کے ساتھ رابطے کو مدنظر رکھا۔ اس میں CIRA کی جانب سے ڈیٹا کی بنیاد پر براڈبینڈ کی کارکردگی کی درجہ بندی والا ایک نیا زمرہ بھی شامل کیا گیا۔

مزید معلومات اور پوری فہرست دیکھنے کے لیے، www.macleans.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب شہر ہے اور مجھے نہ صرف مکلین کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے، بلکہ ایک سال میں #199 سے #13 کے مقام پر پہنچنے پر بے حد فخر ہے۔ ہم اپنے رہائشیوں کے لیے ایک ایسا خوشحال شہر بنانا جاری رکھ رہے ہیں، جو مربوط، قابل استحکام اور مزید معاشی بڑھوتری اور نوکریاں پیدا کرنے کے لیے تیار ہو۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مکلین کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جانا اس کام کی عکاسی ہے، جو ہماری ٹیم ہمارے رہائشیوں کے لیے بامعنی نتائج فراہم کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے نتائج فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں اور کونسل کے اس دور کی ترجیحات کو فروغ دے کر، ہم برامپٹن کو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے پسندیدہ ترین جگہ بنانا جاری رکھیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی



Media Release

جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca